

٩- حُبُّ الْوَطَنِ

إِنَّنِي الِيَوْمَ صَغِيرٌ أَدْرُسُ الْعِلْمَ الشَّمِينَ
 كَيْ تَرَى مِنِّي بِلَادِي فِي غَدٍ خَيْرٌ مُعِينٌ
 أَيْنَمَا كُنْتُ فَقَلْبِي دَائِمًا يَهْفُو إِلَيْهَا
 كَيْفَ لَا أَعْشَقُ أَرْضًا عَاشَ أَجْدَادِي عَلَيْهَا؟
 كُلُّ مَا فِيهَا جَمِيلٌ مِنْ سُهُولٍ وَ جَبَالٍ
 جَوْهَا صَافٍ بَدِيعٌ مَأْوَهَا عَذْبٌ زُلَالٌ
 يُنْعِشُ النَّفْسَ هَوَاهَا فَهُوَ لِلنَّفْسِ شِفَاءٌ
 لِنَعِشُ تَحْتَ سَمَاهَا فِي وِفَاقٍ وَ إِخَاءٍ

خلاصہ : اس نظم میں شاعر وطن سے محبت کا پیغام دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا دل ہمیشہ اس کی محبت سے لبریز ہے۔ میرے ملک سے میرے آبا اجداد نے محبت کی اور اس میں رہنا پسند کیا۔ میرے ملک کی وادیاں، پہاڑ، ندیاں غرضیکہ ہر چیز حسین و جیل ہے۔ اس کی ہوا، پانی اور مٹی سب کچھ بہتر اور خوش نہماں ہیں۔ جس کے ذریعے بیار دل کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ذریعے ذریعے سے محبت کریں اور اس ملک کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔

* * * * * الْكَلِمَاتُ وَ الْمَعَانِي - الفاظ و معانی - Glossary -

Learn	سیکھنا	دَرَسَ يَدْرُسُ دَرْسًا
So that, with the aim of	تاکہ	كَيْ
Tomorrow	آنے والا کل	غَدْ
Cooperator, supporter	مدگار	مُعِينٌ
Wherever	جهاں کہیں	أَيْنَمَا
Forever	ہمیشہ	دَائِمٌ
Beating of heart with passion	(دل) دھڑکنا، راغب ہونا	هَفَا يَهْفُو هَفُوا - القلب

Forefathers, ancestors	آبا واجداد	أَجَادَادٌ وَ جَدُّ
Plain land, soft soil	ميدان، نرم و هموار زمین	سُهُولٌ
Wonderful, Good	عمره، اچھوتا	بَدِيعٌ
Sweet	میٹھا	عَذْبٌ
Sweet pure water	صفافیہ پانی	زُلَالٌ
Revitalise	حیات بخش ہونا	أَنْعَشَ يُنْعِشُ إِنْعَاشًا
Unity	اتحاد	وِفَاقٌ
Brotherhood	بھائی چارہ	إِخَاءٌ

الْتَّمَرِينُ - مشق - Exercise

Complete the following couplets.

۱. أَكْمِلِ الْأَبْيَاتِ التَّالِيَةَ. درج ذيل اشعار مكمل كملي.

۱. كَيْفَ لَا أَعْشُقُ أَرْضًا ۲.

فَهُوَ لِلنَّفْسِ شِفَاء ۲.

Answer the following questions.

۲. أَجِبِ الْأَسْئِلَةَ التَّالِيَةَ. درج ذيل سوالوں کے جواب لکھیے۔

۱. مَا يَهُفُو إِلَى الْوَطَنِ؟

۲. مَنْ عَاشَ عَلَى أَرْضِ الْوَطَنِ؟

۳. كَيْفَ جُو الْوَطَنِ؟

Complete the following activities.

۳. كَمِّلِ الْأَعْمَالَ التَّالِيَةَ. درج ذيل سرگرمیاں مكمل كملي.

۱. أُكْتُبْ صِفَةَ الْعِلْمِ.

۲. أُكْتُبْ كَلِمَاتِ الْجَمْعِ مِنَ النَّظِيمِ.

۳. أُكْتُبْ صِفَةَ الْهَوَاءِ.

الدِّرَاسَةُ الْإِضَافِيَّةُ - اضافی مطالعہ - Additional Information

انٹرویو اور ملازمت کے سلسلے میں استعمال ہونے والے چند الفاظ ان کے معنی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔

Some words used in interviews and services are mentioned below with their meanings.

Interview	انٹرویو	- مقابلۃ
Job	ملازمت	- وظيفة
Achievement	کامیابی	- إنجاز
Certificate	سرٹیفیکیٹ، سندر	- شهادة
Cirruculum Vitae	بائیوڈاٹا	- السیرۃ الذاتیۃ
Communication skills	مواصلاتی ہنر	- المہارات الحواریۃ
To Dismiss	برخاست کرنا	- الإجبار على ترك العمل
Fired	برخاست کیا ہوا	- مطرود من عملہ
Job Candidate	أمیدوار ملازمت	- مرشح لوظيفة
Package, fees	مشاهرہ، پیکنچ	- الراتب
Personal Experience	ذاتی تجربہ	- الخبرۃ الذاتیۃ
Personal Qualities	ذاتی خوبیاں	- صفات شخصیۃ
Punctual	پابند	- دقيق في الوقت
Qualification	علمی صلاحیت	- الأهلية العلمية
Requirement	ضروریات	- متطلبات
Resign	استغفی دینا	- يستقيل، يترك العمل برغبته
Skill	ہنر	- مهارة
Strength	ثابت پہلو	- نقاط القوة
Weakness	منقی/ کمزور پہلو	- نقاط الضعف

الدِّرَاسَةُ الْإِضَافِيَّةُ - اضافی مطالعہ - Additional Information

Some useful sentences for routine life.

روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے چند مفید جملے۔

I'ts an emergency.

یہ ایک ایمِرجنسی ہے۔

I have lost my passport.

میں نے اپنا پاسپورٹ کھو دیا ہے۔

I have lost my bag.

میں نے اپنا بستہ کھو دیا ہے۔

Where is the nearest police station?

سب سے قریب پولس چوکی کہاں ہے؟

Where is the Indian embassy?

ہندوستانی سفارت خانہ کہاں ہے؟

Where is the nearest hospital?

قریب ترین اسپتال کہاں ہے؟

Call a doctor!

ڈاکٹر کو بلا یے۔

Call an ambulance!

ایمبولنس کو بلا یے۔

Can you help me?

کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟

Is there any medical store nearby?

کیا کوئی دوا فروش کی دکان قریب میں ہے؟

Please call the police.

برادری مہربانی، پولس کو فون کیجیے۔

I need a doctor.

مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔

I have been attacked.

مجھ پر حملہ ہوا ہے۔

I would like to report a theft.

میں چوری کی رپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔

Call the fire brigade.

فائر بریگیڈ کو فون کیجیے۔

There has been an accident.

ایک حادثہ پیش آیا ہے۔

Can someone call emergency number?

کیا کوئی ایمِرجنسی نمبر پر فون کر سکتا ہے؟

Be careful.

احتیاط کرو۔

Hurry up!

جلدی کرو۔

إِنَّهَا حَالَةٌ طَارِئَةٌ

لَقَدْ فَقَدْتُ جَوَازَ سَفَرِي

لَقَدْ فَقَدْتُ مِحْفَظَتِي

أَيْنَ أَقْرَبُ قِسْمٍ شُرْطَةً؟

أَيْنَ السِّفَارَةُ الْهِنْدِيَّةُ؟

أَيْنَ أَقْرَبُ مُسْتَشْفَى؟

أُطْلُبُ الطَّبِيبَ!

أُطْلُبُ إِسْعَافَ!

مُمْكِنٌ تُسَاعِدُنِي؟

هَلْ أَيُّ صَيْدِلِيَّةٍ قَرِبَةً؟

مِنْ فُصْلِكَ اِتَّصِلُ بِالشُّرُطَةِ.

أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى دُكْتُورٍ.

لَقَدْ تَمَّتْ مُهَاجَمَتِي.

أَوْدُ أَنْ أُخْبِرَ جَرِيمَةَ سَرْقَةٍ.

إِتَّصِلُ بِالْإِطْفَاءِ.

لَقَدْ وَقَعَ حَادِثٌ.

هَلْ يُمْكِنُ اِلْاتِصَالُ بِرَفِقِ

الْطَّوَارِيِّ؟

كُنْ حَذِيرًا

أَسْرِعْ!